




آپ میرے ضعف رہیے، میں آپ کا جزو ضربی ہوں گا

چوہا اور بلی



4511CH06



بھوکی بلی کنجن چوہے کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔
کنجن ابھی چودھویں سیڑھی پر ہے اور ایک بار میں
2 سیڑھی کو دسکتا ہے۔ بلی تیسری سیڑھی پر ہے۔ وہ
ایک بار میں 3 سیڑھیاں کو دسکتی ہے۔ اگر چوہا 28 ویں
سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے تو وہ چھپ سکتا ہے۔ معلوم کیجیے
کہ کیا چوہا محفوظ بچ سکے گا۔

(a) وہ سیڑھیاں جن پر چوہا کودا ہے۔

(b) وہ سیڑھیاں جن پر بلی کودی ہے۔

(c) وہ سیڑھیاں جن پر چوہا اور بلی دونوں کودے ہیں۔

(d) کیا چوہا محفوظ بچ گیا؟

معلوم کیجیے

اگر بلی پانچویں سیڑھی سے کودنا شروع کرتی ہے اور ایک بار میں پانچ سیڑھیاں کودتی ہے
اور چوہا آٹھویں سیڑھی سے کودنا شروع کرتا ہے اور ایک بار میں 4 سیڑھیاں کودتا ہے، تو کیا
چوہا محفوظ بچ سکتا ہے؟

بچوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اسی طرح کے سوالات مختلف ضعف کے ساتھ بنائیں اور انہیں حل
کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں۔

مونٹو کس کا انتظار کر رہی ہے؟



مونٹو بلی کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کا انتظار کر رہی ہے؟
اسے معلوم کرنے کی ایک ترکیب ہے۔

			D				X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M					P			I
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			O						
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
R			N		U				
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			B	W		S			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	J				H			E	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60


ان تمام اعداد پر جو 2 سے تقسیم ہو سکتے ہیں، لال نقطے سے نشان لگائیے۔ ان اعداد پر جو 3 سے تقسیم ہو سکتے ہیں، پیلے نقطے سے نشان لگائیے اور ان اعداد پر جو 4 سے تقسیم ہو سکتے ہیں، نیلے نقطے سے نشان لگائیے۔

وہ کون سے خانے ہیں جن پر تینوں رنگوں کے نقطے ہیں؟

ان خانوں کے اوپر انگریزی کے کون سے حروف ہیں۔

ان حروف کو ترتیب سے نیچے لکھیے۔

میاؤں کھیل (Meow Game)



اس کھیل کو کھیلنے کے لیے ہر کوئی ایک دائرے میں کھڑا ہوتا ہے۔
ایک کھلاڑی کہتا ہے 'ایک' اور اگلا کھلاڑی کہتا ہے 'دو'۔ اور اسی طرح یہ کھیل آگے بڑھتا ہے۔ جس کھلاڑی کو 3 یا وہ عدد جو '3' سے تقسیم ہو جاتا ہے اسے اس عدد کے بجائے 'میاؤں' کہنا پڑتا ہے۔ جو میاؤں کہنا بھول جاتا ہے وہ کھیل سے باہر ہو جاتا ہے۔ جو آخری کھلاڑی بچ جاتا ہے وہی جیتتا ہے۔

آپ نے کن اعداد کو 'میاؤں' سے بدلا ہے؟

..... 9، 6، 3



ہم ان اعداد کو 3 کا ضعف (Multiple) کہتے ہیں۔

عدد 3 کو 4 سے بدل کر اس کھیل کو کھیلیے۔

اب آپ نے کن اعداد کو 'میاؤں' سے بدلا؟

یہ اعداد 4 کے ضعف ہیں۔

* 5 کے کوئی بھی دس ضعف لکھیے۔


بچوں کو اس کھیل کو الگ الگ اعداد کے ضعف کے ساتھ بار بار کھیلنے کے لیے کہیے۔

پانسے کا کھیل

دو پانسوں کو ایک ساتھ پھینکیے۔ پانسوں کی اوپری سطح پر کون سے اعداد نظر آ رہے ہیں۔ انہیں استعمال کر کے دو ہندسوں والا ایک عدد بنائیے۔ اگر یہ دائرے کے آگے لکھے کسی بھی اعداد کا ضعف ہے تو آپ اسے اسی دائرے میں لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے دوست کی باری ہے۔ 10 راؤنڈ میں جو زیادہ اعداد لکھے گا وہ جیت جائے گا۔




میرے پانسوں میں 3 اور 2 ہیں۔ اگر میں 23 بناتا ہوں تو وہ کسی بھی عدد کا ضعف نہیں ہے۔ اس لیے میں 32 بناؤں گا جو 4 کا ضعف ہے، اور اسے لال دائرے میں لکھوں گا۔



مشترک ضعف (Common Multiples)

کوئی ایک عدد سوچیے۔ اگر یہ 3 کا ضعف ہے تو اسے لال دائرے میں لکھیے۔ اگر یہ 5 کا ضعف ہے تو اسے نیلے دائرے میں لکھیے۔



میں 15 کو کہاں لکھوں؟ یہ 3 اور 5 دونوں کا ضعف ہے۔




کچھ اعداد 3 اور 5 دونوں کا ضعف ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں 3 اور 5 کے مشترک ضعف ہیں۔ سوچیے! اگر آپ 3 اور 5 کے مشترک ضعف بیگنی حصے میں لکھتے ہیں، تب کیا یہ دونوں لال اور نیلے دائروں میں بھی ہوں گے؟

* ان مشترک ضعف میں کون سا سب سے چھوٹا ہے؟ _____

2 اور 7 اعداد استعمال کر کے کھیل کودو ہر ایسے۔

* 2 اور 7 کا مشترک ضعف لکھیے۔

4، 6 اور 5 کے اضعاف کو دائروں میں رکھ کر کھیل کودو ہر ایسے۔



✱ 5 اور 6 کے کون سے مشترک اضعاف آپ نے ہرے حصے میں لکھے ہیں؟

✱ 4 اور 6 کے کون سے مشترک اضعاف نارنگی حصے میں لکھے ہیں؟

✱ 4، 6 اور 5 کے مشترک اضعاف آپ نے کس رنگ کے حصے میں لکھے ہیں؟

✱ 4، 6 اور 5 کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف کیا ہے؟

پہلی

املی کے بیج

سُنیتا نے املی کے کچھ بیج لیے۔ اس نے ان کے پانچ پانچ کے گروپ بنائے اور ایک بیج بیج گیا۔ اُس نے چھ اور چار چار کے گروپ بنانے کی کوشش کی۔ ہر مرتبہ ایک بیج باقی بیج گیا۔ سُنیتا کے پاس کم سے کم کتنے بیج تھے؟


بچوں کی بیج اور پتھر وغیرہ کا استعمال کر کے اس طرح کی سرگرمیوں کو خود کرنے کی حوصلہ افزائی کیجیے۔

املی کے کچھ اور بیج



ایمینی املی کے 12 بیجوں کو الگ الگ طرح کے مستطیلوں میں رکھ رہی ہے۔ املی کے 12 بیجوں کا استعمال کر کے اس طرح کے اور دوسرے مستطیل بنانے کی کوشش کیجیے۔ آپ الگ الگ طرح کے کتنے مستطیل بنا سکتے ہیں؟ اگر املی کے 15 بیج ہوں تو آپ کتنے مستطیل بنا سکتے ہیں۔

گرڈ (Grid) میں رنگ بھریے۔



یہاں دیے گئے گرڈ میں 20 خانوں کی ایک مستطیل بنائی گئی ہے اس مستطیل کی چوڑائی دو خانوں کے برابر ہے۔

* اس کی لمبائی کیا ہے؟

* 20 خانوں سے الگ طرح سے بنے ایک مستطیل میں رنگ بھریے۔

* جس مستطیل میں آپ نے رنگ بھرا ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟

* آپ 20 خانوں کے ایک مستطیل میں کتنے طریقوں سے رنگ بھر سکتے ہیں؟ ان سبھی گرڈ میں رنگ بھریے اور رنگے ہوئے ہر مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کیجیے۔

چوڑیاں

ایک سلاخ پر 18 چوڑیاں ہیں۔ مینا انھیں گروپ میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بغیر کوئی چوڑی بچائے وہ انھیں 2، 3، 6، 9 اور 18 کے گروپ میں رکھ سکتی ہے۔

* اگر وہ ایک ایک چوڑی کا گروپ بناتی ہے تو اس کے پاس کل کتنے گروپ ہوں گے؟

اب الگ الگ چوڑیوں کی تعداد کے لیے جدول کو پورا کیجیے ہر ایک عدد کے لیے کون سے الگ الگ گروپ بنائے جاسکتے ہیں۔

چوڑیوں کی تعداد	مختلف گروپ جو ہم بنا سکتے ہیں
18	18، 9، 6، 3، 2، 1
24	، 2، 1
5	
9	
7	
2	
10	
1	
20	
13	
21	





چارٹ کو بھریئے

دیئے ہوئے ضرب کے چارٹ کو مکمل کیجیے۔

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
12												1
						12						2
					21			12				3
		40							12			4
								20				5
									12			6
												7
			72									8
												9
												10
						66						11
											12	12

چارٹ میں ہرے خانوں کو دیکھیے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ الگ الگ اعداد کو ضرب کر کے کس طرح 12 کا

عدد حاصل کیا جاسکتا ہے۔

12

4×3

6×2

1×12

$12 = 4 \times 3$ اس لیے عدد 12، 4 اور 3 کا ضعف ہے۔ اسی طرح عدد 12، 6 اور 2 کا بھی ضعف ہے اور 12 اور

1 کا بھی ضعف ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1، 2، 3، 4، 6، 12 عدد 12 کے جزو ضربی (Factor) ہیں۔

10
5×2

* 10 کے جزو ضربی کیا ہیں؟ _____

کیا آپ اسے چارٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں؟

* 36 کے جزو ضربی کون سے ہیں؟ _____

* ضرب کے چارٹ سے 36 کے سبھی جزو ضربی تلاش کیجیے۔

* وہ بڑے سے بڑا عدد کون سا ہے جس کا جزو ضربی آپ اس چارٹ سے معلوم کر سکتے ہیں۔



* اس سے بڑے اعداد کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟

مشترک جزو ضربی (Common factors)

25 کے جزو ضربی لال دائرے میں اور 35 کے جزو ضربی نیلے دائرے میں لکھیے۔

وہ کون سے جزو ضربی ہیں جو آپ نے دونوں دائروں کے مشترک حصے (بیگنی) میں لکھے ہیں؟ یہ 25 اور 35 کے مشترک جزو ضربی ہیں۔

اب آپ 40 کے جزو ضربی لال دائرے میں اور 60 کے جزو ضربی نیلے دائرے میں لکھیے۔





وہ کون سے جزو ضربی ہیں جو دائرے کے مشترک حصے (بیگنی) میں لکھے گئے ہیں؟ 40 اور 60 کا سب سے بڑا مشترک جزو ضربی کون سا ہے؟






جزو ضربی کا درخت

جزو ضربی کے درخت کو دیکھیے۔ کیا آپ اسی طرح کا دوسرا درخت بنا سکتے ہیں؟



* آپ 24 کا جزو ضربی درخت کتنی طرح سے بنا سکتے ہیں۔ ان میں سے تین نیچے بنائیے۔



* دوسرے اعداد کے جزو ضربی درخت بھی بنانے کی کوشش کیجیے۔


ٹائیل بچھانے کا مسئلہ

1) انوکے گھر میں ایک باغیچہ ہے۔ باغیچے کے درمیان میں ایک راستہ ہے۔ انھوں نے راستے پر 2 فٹ، 3 فٹ اور 5 فٹ لمبائی کی ٹائیلیں بچھانے کا فیصلہ کیا۔

مسٹری نے پہلی قطار میں 2 فٹ کے ٹائیل لگائے، دوسری قطار میں 3 فٹ کے اور تیسری قطار میں 5 فٹ کے ٹائیل لگائے۔ بتائیے راستے کی کم سے کم لمبائی کتنی ہے؟



(2) منوج نے ایک نیا گھر بنایا ہے۔ وہ فرش پر ٹائیلیں بچھانا چاہتا ہے۔ کمرے کی پیمائش 9 فٹ $\times$ 12 فٹ ہے۔ بازار میں تین قسم کے مربع ٹائیل ہیں: 1 فٹ $\times$ 1 فٹ، 2 فٹ $\times$ 2 فٹ اور 3 فٹ $\times$ 3 فٹ۔ اسے کس سائز کی ٹائیلیں خریدنی چاہیے کہ وہ انھیں بغیر کاٹے فرش پر بچھوا سکے؟



رانی، گیتا اور نسیمہ کے گھر ایک دوسرے کے نزدیک ہیں۔ ان کے گھروں سے سڑک کا فاصلہ 90 فٹ ہے۔ انھوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ راستے پر ٹائیلیں بچھوائیں گی۔ ان سب نے مختلف ڈیزائن اور لمبائی کی ٹائیلیں خریدیں۔ رانی نے سب سے چھوٹی ٹائیل خریدی، گیتا نے درمیانی سائز کی اور نسیمہ نے سب سے لمبی ٹائیل خریدی ہے۔ اگر وہ کسی بھی ٹائیل کو کاٹے بغیر بچھا سکتی ہیں تو خریدی گئی ٹائیلوں کی پیمائش کیا ہے؟ تین مختلف حل تجویز کیجیے۔ سمجھائیے کہ آپ نے یہ جواب کس طرح حاصل کیا۔

’فٹ‘ کے بارے میں بحث کرنا فائدے مند ثابت ہوگا خاص کر اس وقت جب ہم اسے اپنی لمبائی (اونچائی) کے بارے میں بات کرتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ بچے اپنے سینٹی میٹر اسکیل کا استعمال کر کے ایک فٹ لمبائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔